



## اللہ! میں تیری پنا میں آتا ہوں آگ کے فتنہ سے، آگ کے عذاب سے نیز مال داری اور محتاجی کے شر سے

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ سَرِّ الْغَيْبِ، وَالْفَقْرِ“ اللہ! میں تیری پنا میں آتا ہوں آگ کے فتنہ سے، آگ کے عذاب سے نیز مال داری اور محتاجی کے شر سے

[صحیح] [اس ابن ماجہ نے روایت کیا ہے - اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اس امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے]

نبی مختار ﷺ چار امور سے پنا مانگا کرتے تھے: ”اللہ! میں تیری پنا میں آتا ہوں آگ کے فتنہ سے“ یعنی وہ فتنہ جو آگ کی طرف لے جانے والا ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ آگ کے فتنہ سے مراد زجر اور توبیخ کے لیے جہنم کے داروغہ کا وہ سوال کرنا ہو جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اشارہ کیا گیا ہے: ”كَلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ“ ”کہ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تم ہمارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟“ ”آگ کے عذاب سے“ یعنی میں تیری پنا میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جہنمیوں میں سے ہو جاؤں جہنمی لوگ کافر ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا جہاں تک موحد لوگوں کا تعلق ہے تو انہیں آگ سے عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کی تادیب و تہذیب کی جائے گی ”مالداری کے شر سے“ یعنی اکڑ، سرکشی، حرام طریقہ سے مال کا حصول، نافرمانی میں اس کا خرچ کرنا، مال و منصب پر فخر و نمود، مال کو جمع کرنے کی حرص، اسے حلال طریقہ سے حاصل نہیں کرنا اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں مال خرچ کرنے سے روک رکھنا ہے ”فقیری اور محتاجی کے شر سے“ یعنی وہ محتاجی ہے جس کے ساتھ صبر اور تقویٰ نہ ہو اور اپنے فقر کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں میں پھنس جائے جو دیندار اور صاحب مروّت لوگوں کے شایان شان نہیں ہیں ساتھ ہی مال داروں سے حسد کرنا، ان کے مال کی لالچ رکھنا، اس طرح اپنے آپ کو گرا دینا جو عزت و دین کے منافی ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا اور اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جن کا انجام برا ہی ہوتا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6072>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

